

PRESS RELEASE

For immediate release

February 15, 2019

ایس ای سی پی نے انٹرنیشنل فنانشل رپورٹنگ سٹینڈرڈ نمبر 9 کا اطلاق مؤخر کر دیا

اسلام آباد (15 فروری) سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے تمام ایسی کمپنیوں کے لئے جنہیں اپنے سالانہ مالی حسابات انٹرنیشنل فنانشل رپورٹنگ سٹینڈرڈز (IFRS) کے مطابق تشکیل دینا ہوتی ہیں، کے لئے مالیاتی انسٹرومنٹ سے متعلق انٹرنیشنل فنانشل رپورٹنگ کے سٹینڈرڈ نمبر 9 کا اطلاق مؤخر کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کمپنیوں کے مطالبے اور انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تجویز پر کیا گیا ہے۔

ایس ای سی پی نے 4 اکتوبر 2017 کو جاری کئے گئے ایک نوٹیفیکیشن (SRO 1007(D)/2017) کے ذریعے انٹرنیشنل فنانشل رپورٹنگ سٹینڈرڈ نمبر 9 کو یکم جولائی 2018 سے لاگو کیا تھا۔ آئی ایف آر ایس نمبر 9 کا اطلاق انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ نمبر 39 (IAS-39) کی جگہ کیا گیا تھا۔ کمپنیوں کو جولائی 2018 کے بعد سے فنانشل سٹیٹمنٹ کی تیاری آئی ایف آر ایس نمبر 9 کے مطابق کرنا تھی۔ تاہم کئی کمپنیوں نے ایس ای سی پی سے رابطہ کیا اور مجوزہ سٹینڈرڈ نمبر 9 کے اطلاق کو مؤخر کرنے کی درخواست کی کیونکہ اس سٹینڈرڈ پر عمل درآمد کے لئے متعلقہ معلومات، ڈیٹا، تخمینے دستیاب نہیں اور اس کی وجہ سے فنانشل سٹیٹمنٹ کی تیاری میں زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے اور کمپنیوں کو مشکلات پیش آرہی ہیں۔

ایس ای سی پی نے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تجویز پر جون 2019 میں ختم ہونے والے مالی سال کے لئے آئی ایف آر ایس نمبر 9 کا اطلاق مؤخر کر دیا ہے۔ امید ہے کمپنیاں اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فنانشل سٹیٹمنٹ بروقت مکمل کریں گے اور آئندہ مالی سال میں آئی ایف آر ایس نمبر 9 کے مطابق فنانشل سٹیٹمنٹ کی تیاری کے لئے اقدامات کریں گی۔ تاہم کمپنیاں اس سال بھی آئی ایف آر ایس نمبر 9 کے مطابق اپنے فنانشل جمع کروا سکتی ہیں۔

کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 225 کے تحت ایس ای سی پی کو کمپنیوں کی فنانشل سٹیٹمنٹ کو معیاری بنانے کے لئے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز جاری کرنے کا اختیار ہے۔